

کووڈ-19 ویکسین کی اپائنٹمنٹس کے لئے آمدورفت کیسے حاصل کی جائے

عمومی جائزہ

اگر آپ کے پاس Apple Health (Medicaid) ہے اور آپ کو اپنی طبی نگہداشت کی اپائنٹمنٹس میں جانے کے لئے مدد درکار ہے تو Health Care Authority (HCA) (طبی نگہداشت کی اتھارٹی) آپ کی آمدورفت کا احاطہ کرے گی۔ آپ اس سروس کو غیر ہنگامی طبی اپائنٹمنٹس جیسے کووڈ-19 ویکسینیشن کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔

آمدورفت میں مدد کیسے لی جائے

اپنی کاؤنٹی کے آمدورفت کے بروکر کو فون کریں (صفحہ 2 پر بروکرز کی فہرست دیکھیں)۔ بروکر آپ کی اہلیت چیک کرے گا اور آپ کی سفری ضروریات پوری کرنے والی آمدورفت کا انتظام کرے گا۔ اگر آپ اس سروس کے لئے اہل نہ ہوں تو بروکر دیگر مقامی وسائل کے متعلق آپ کی رہنمائی کرے گا۔

براہ کرم کال کرتے ہوئے درج ذیل معلومات تیار رکھیں

- آپ کا ProviderOne سروس کارڈ
- آپ کا مکمل پک اپ (سواری ہٹھانے کا) پتہ
- آپ کی ویکسین اپائنٹمنٹ کا مقام
- آپ کے معالج کا نام اور فون نمبر (اگر آپ کو بڑے پیمانے پر کووڈ-19 کی ویکسین لگانے والے مقام تک آمدورفت درکار ہے تو اس معلومات کی ضرورت نہیں)
- آپ کی اپائنٹمنٹ کی درست تاریخ اور وقت
- طبی نگہداشت کی اپائنٹمنٹ کی قسم (مثلاً ڈیالیسیز، او بی، ڈینٹل، کووڈ-19 ویکسین وغیرہ)

عمومی سوالنامہ

غیر ہنگامی طبی آمدورفت کیا ہے؟

یہ سروس آپ کو طبی نگہداشت کی اپائنٹمنٹس پر آنے جانے میں مدد دیتی ہے۔ آمدورفت کی عام ترین اقسام میں سرکاری بس، ٹیکسی، وہیل چیئر وین، گیس واؤچر، اور سفر کی بازادائیگی شامل ہیں۔ اس سروس میں اسٹریچر، ایمبولنس یا محفوظ آمدورفت شامل نہیں۔

کیا کووڈ-19 ویکسین کی اپائنٹمنٹ کے لئے غیر ہنگامی طبی آمدورفت استعمال کی جا سکتی ہے؟

جی ہاں، ہم فارمیسیز، بڑے پیمانے پر ویکسین لگانے والے کلینکس اور ڈرائیو تھرو کلینکس سمیت تمام ویکسینیشن کے تمام مقامات تک آنے جانے کی سروس فراہم کرتے ہیں۔ براہ کرم اپنی کاؤنٹی کے آمدورفت کے بروکر کو فون کریں۔ وہ آپ کی سفری ضروریات کو پورا کرنے والی ٹرپ کا انتظام کریں گے۔

کون غیر ہنگامی طبی آمدورفت استعمال کر سکتا ہے؟

Apple Health (Medicaid) کے جن کلائنٹس کو آمدورفت میں مدد درکار ہے، وہ اس سروس کے لئے اہل ہیں۔



غیر ہنگامی آمدورفت کے لئے کس کو فون کرنا ہوگا؟

اپنی کاؤنٹی میں کام کرنے والے آمدورفت کے بروکر کو فون کریں۔ وہ آپ کی اہلیت چیک کریں گے اور آپ کے سفر کا انتظام کریں گے۔ اگر آپ اس سروس کے لئے اہل نہ ہوتے تو وہ آپ کو دیگر مقامی وسائل سے منسلک کریں گے۔

آمدورفت کی درخواست کے لئے کب کال کی جائے؟

آپ کو جلد از جلد اور اپنی طبی اپائنٹمنٹ سے کم از کم دو کاروباری دن قبل کال کرنی چاہیے۔ اگر وسائل دستیاب ہوں تو دو کاروباری دنوں سے کم نوٹس پر فوری ٹریس بھی ممکن ہو سکتی ہیں۔

بروکر کے روابط

| بروکر کا نام | ان کی کاؤنٹیز | فون نمبر |
|----------------------------|---|-------------------------|
| Hopelink | King, Snohomish | 1-800-923-7433 |
| Northwest Regional Council | Island, San Juan, Skagit, Whatcom | 1-800-860-6812 |
| Paratransit Services | Clallam, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, Pierce, Thurston | 1-800-846-5438 |
| Human Services Council | Clark, Cowlitz, Klickitat, Skamania, Wahkiakum | 1-800-752-9422 (آپشن 2) |
| People for People | Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Franklin, Kittitas, Okanogan, Walla Walla, Yakima | 1-800-233-1624 |
| Special Mobility Services | Adams, Asotin, Ferry, Garfield, Grant, Lincoln, Pend Oreille, Spokane, Stevens, Whitman | 1-800-892-4817 |

مزید معلومات کے لئے براہ کرم hca.wa.gov/transportation-help پر (NEMT) Non-Emergency Medical Transportation، غیر ہنگامی طبی آمدورفت) کی ویب سائٹ پر جائیں۔



820-NonDOH May 2021 Urdu

اس دستاویز کو کسی اور شکل میں حاصل کرنے کے لئے 1-800-525-0127 پر کال کریں۔ سماعت سے محروم یا اونچا سننے والے صارفین، براہ کرم (Washington 711) Relay) پر کال کریں یا اس پتے پر ای میل کریں civil.rights@doh.wa.gov

